



AITEBAAR

# TAKAFUL SAVING PLAN

(Aitebaar Islamic Plan)

With the massive growth and expansion in the Islamic Banking sector and related finance modes, there has been a protruding demand from the consumers for effective ways through which they can protect their future and secure their loved ones while being compliant to the Sharia'h standards. Family Takaful took this matter into consideration and derived solutions to protect the financial needs of the participants including, but not limited to child's education, home renovations, children marriages and a peaceful post retirement life.

TPL Life Window Takaful Operations has always been at the forefront to provide unmatched services to its customers based on their varying needs. We commenced our operations in 2017 and ever since have been delivering the best solutions to our partners. In collaboration with Dubai Islamic Bank, TPL Life (WTO) has introduced "TPL Life WTO Aitebaar Islamic Plan", which is a unique plan designed only for Dubai Islamic Bank customers. The Bank will only act as an agent/distributor of this takaful plan.

## About TPL Life WTO Aitebaar Islamic Plan

TPL Life WTO Aitebaar Islamic Plan offers a great combination of investment, savings and protection. Strategically build under the Sharia'h principles, this plan offers great peace of mind and ensures secured future of your loved ones. You get a comprehensive takaful coverage power packed with savings plan. The concept of Takaful is not new; it adheres to an Islamic ideology of brotherhood and mutual help with Shariah Compliant investments, all under the guidance of Sharia'h Advisory Board. Specially designed for Dubai Islamic bank prestigious customers, the plan is a Sharia'h compliant way of helping each other in the unforeseen times including death, critical illness support or disability.

## Free Look Period

In case you are not satisfied with the Terms & Conditions/Features of the Takaful membership, you have the right to cancel the takaful membership within 14 days of receipt of the Participant Membership Documents (PMD) and get a \*refund of the paid contribution subject to the PMD. However, deductions are made for any expenses incurred by TPL Life WTO in connection with your medical or clinical examinations.

(\*is governed by the Terms & Conditions of the Plan and the Window Takaful Operator's Membership for Refund with in Free Look Period.)

# Takaful Benefits Under Aitebaar Islamic Plan

## Death Benefit:

Death benefit payable is the Cash Value of Units or Sum Covered, whichever is higher + total cash value of the top-up amount in participant's investment fund (PIF) + surplus (if any) as per Participant Takaful Fund's (PTF) rules.

## Maturity Benefit:

On completion of the membership term, the available Participant's Investment Fund (PIF) value along with the account value of Top-Up amount (if any) will be payable to the participant.

Entry Ages	18- 65
Expiry Age	85
Term Range	Minimum 5- Maximum 25

## Additional Benefits:

There are various amazing supplementary benefits which are attached to enhance the takaful coverage, including:

### Accidental Death Benefit:

This coverage includes Death benefit for loss of life due to accident only.

### Accidental Death and Dismemberment Benefit:

This coverage includes Death and Permanent Total and Permanent Partial Dismemberment benefits.

### Critical Illness Benefit:

Coverage will be given to participant in case any critical illness is diagnosed.

## **Contribution Support Benefit:**

This includes coverage for Participant's incapacity from engaging or being employed for remuneration or profit in his or her occupation or any other occupation for which he or she is reasonably suited by knowledge, training and experience (due to bodily injury or disease).

## **Educational Expense Benefit:**

In the event of death of the participant, monthly benefit will be given to the beneficiary until the termination date of EEB contract.

## **Family Support Benefit:**

In the event of death of the participant, monthly benefit will be given to the beneficiary until the termination date of FSB contract.

## **Hospital Cash Benefit**

The coverage is applicable if the Participant, as a result of injury or commencement of sickness is undergoes hospitalization for at least two days, under the continuous attendance of a physician.

## **Immobility Assist Benefit**

The coverage is applicable in the event of the Participant being permanently and totally disabled due to sickness.

## **Income Support Benefit**

The benefit would be provided in the event of death of the Participant by any cause until the termination of the contract.

## **FAQs**

### Eligibility & Membership Term

- Minimum entry age: 18 years
- Maximum entry age: 65 years
- Participant Maximum Maturity age: 85 years
- Minimum Membership term: 5 years
- Maximum Membership term: 25 years
- Minimum Contribution: PKR 25,000
- Maximum Contribution: PKR 249,999
- Mode of Contribution Payment: Yearly, Half-Yearly- Quarterly & Monthly

The supplementary benefits will terminate at the age mentioned in the supplementary benefit.

## Contribution Allocation

The table below depicts the year wise percentages of the participant's contribution:

Year	Contribution allocation percentage (including Bonus)	Bonus Allocation Percentage
1	55.00%	0.00%
2	80.00%	0.00%
3 to 4	100.00%	0.00%
5	105.00%	5.00%
6 to 9	100.00%	0.00%
10	105.00%	5.00%
11 to 14	100.00%	0.00%
15	105.00%	5.00%
16 to 19	100.00%	0.00%
20	105.00%	5.00%
21 onwards	100.00%	0.00%
Ad-hoc	97.00%	0.00%

This is merely a brochure, not a contract. For detailed terms and conditions, please see the participant's membership document (PMD).

### Disclaimer:

This product is underwritten by TPL Life – Window Takaful Operations.

It is not a product of Dubai Islamic Bank, and TPL Life – Window Takaful Operations is responsible for all the underwriting risk.

The applicant/participant fully agrees and understands that Dubai Islamic Bank is acting as a corporate takaful agent of TPL Life – Window Takaful Operations and shall under no circumstances whatsoever, be responsible or held liable for the representations and/or undertakings made by TPL Life – Window Takaful Operations in relation to their Aitebaar Islamic Plan, a regular contribution product and/or any benefit or loss arising out of it.

Should the applicant/participant proceed to subscribe to this **TPL Life WTO Aitebaar Islamic Plan** – a regular contribution product, he/she shall do so on a voluntary basis at his/her sole risk and Dubai Islamic Bank shall have no responsibility or liability whatsoever in respect of any disputes and/or claims arising as a consequence of the investment performance of the fund comprising of contributions from the applicant/participant and/or for any other reason whatsoever.

All Takaful claims, charges and payments relating to the Takaful membership shall be the sole and exclusive responsibility of TPL Life – Window Takaful operations. However, service charges and taxes will be applicable as per the banks "Schedule of Charges" and taxation laws as stipulated by the relevant authorities.

## Filling of Claim(s):

TPL Life Window Takaful Operations pledges to provide smooth and efficient claims processing. To fulfil our commitment, we request the claimant to submit the claim(s) instantly, with all the required/necessary documents/formalities. Our claim settlement procedure is hassle-free, instant and comprises of 3 simple steps:

### Step 1: Intimation

A claim can be lodged for benefit(s) under the membership by submitting a written intimation by the nominee of the membership holder. Always remember to mention the Event date, Cause of the Event and current address of the claimant(s) while submitting the intimation. Claim intimation in writing Can be sent to postal/email address listed below or to the bank from where the membership was obtained.

#### Addressed to:

TPL Life Window Takaful Operations

19-B, Lane 3, SMCHS, in the lane of Roomi Masjid,

Shahrah-e-Faisal, Karachi, Pakistan.

Tel: (021) 35171701 – 10

UAN: +92 21 111-000-330 "TPLLIFE (space) Complaint" to 9060

WhatsApp at +923018247803

Email: [info@tpllife.com](mailto:info@tpllife.com)

Website: [www.tpllife.com](http://www.tpllife.com)

### Step 2: Complete the Claim Form

Upon intimation of an event, TPL Life (WTO) will register and acknowledge the claim and release relevant forms within 15 days working filing proof of loss which are required based on the nature of events and/or nature of the claim. The extent of the information required may vary based on the nature of event and/or nature of claim. The relevant document(s) & form(s) properly completed, signed and witnessed/attested must be returned to TPL Life (WTO) for which the claim is made.

### Step 3: Settlement & Payment:

A claim is approved and the payment cheque is issued to the rightful nominee/beneficiary against the claim as soon as complete forms along with the required documents are received to the satisfaction of TPL Life (WTO).

### Documents Required for Processing of Death/Disability Claim

#### Death (Natural / Accidental)

Claimant's Statement (information of the claimant and deceased)

Medical Attendant's Statement (completed by attendant)

\*check claim forms for additional requirements.

#### Disability (Natural/Accidental)

Claimant's Statement (information of the Covered member and Event)

Medical Attendant's Statement (completed by attendant)

\*check claim forms for additional requirements

اعتبار

مکافل سیونگ پلان  
اعتبار اسلامک پلان



اسلامی بینکاری کے شعبہ اور اسے منسلک مالیاتی طریقوں میں بڑے پیمانے پر ہونے والی ترقی و توسیع کے ساتھ ہی صارفین کی طرف سے ایسے مؤثر ذرائع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہ صرف اپنے مستقبل کو محفوظ بناسکیں بلکہ ساتھ ہی اپنے پیاروں کے تحفظ کو بھی یقینی بناسکیں۔ فیملی تکافل نے اس معاملہ پر غور و خوض شروع کیا اور شرکاء بشمول بچوں کی تعلیم، گھر کی مرمت، بچوں کی شادیاں اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پرسکون زندگی (تاہم اس تک محدود نہیں) کے حوالے سے مالی ضروریات کے تحفظ کا دیرپا حل نکالا۔

ٹی پی ایل لائف ونڈ تکافل آپریشنز اپنے شرکاء کو ان کی مختلف ضروریات کی بنیاد پر بے مثال خدمات کی فراہمی میں ہمیشہ سے ہی صف اول کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ہم نے اپنے عملی امور کا آغاز سال 2017 میں کیا اور اس وقت سے ہم اپنے شراکت داروں کو بہتری خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ ٹی پی ایل لائف (ڈبلیو ٹی او) نے دینی اسلامک بینک کے تعاون سے "ٹی پی ایل لائف ڈبلیو ٹی او اعتبار پلان" متعارف کرایا ہے، جو کہ ایک ایسا منفرد پلان ہے جو صرف دینی اسلامک بینک کے کسٹمرز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس پلان میں بینک، اس تکافل پلان کے صرف ایجنٹ رڈسٹری بیوٹر کے طور پر کام کرے گا۔

## ٹی پی ایل لائف ڈبلیو ٹی او اعتبار اسلامک پلان کے بارے میں

ٹی پی ایل لائف ڈبلیو ٹی او اعتبار اسلامک پلان سرمایہ کاری، بچت اور تحفظ کا ایک بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ شرعی اصولوں کے تحت تیار کیا جانے والا یہ پلان دینی سکون فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیاروں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ سیونگز پلان کے ساتھ ایک جامع تکافل کوریج پاور بیک حاصل کرتے ہیں۔ تکافل کا تصور کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ شرعی اصولوں پر مبنی سرمایہ کاری کے ساتھ بھائی چارگی اور باہمی مدد کے اسلامی نظریات سے ہم آہنگ ہے، جسے مکمل طور پر شریعہ ایڈوائزی بورڈ کی زیر نگرانی انجام دیا جاتا ہے۔ دینی اسلامک بینک کے معزز صارفین کے خصوصی طور پر تیار کردہ یہ پلان، وفات، پیچیدہ بیماری یا معذوری میں معاونت پر مبنی مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا شرعی طریقہ ہے۔

## فری لک پیئرڈ

تکافل رکنیت کی شرائط و ضوابط خصوصیات کے حوالے سے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں، شریک رکنیت کی دستاویز (PMD) کی وصولی کے 14 ایام کے اندر تکافل رکنیت کو منسوخ کر سکتا ہے اور پی ایم ڈی سے مشروط اپنے ادا کردہ زر تعاون کو واپس\* حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم آپ کے طبی یا کلینکل معائنہ پر ٹی پی ایل کی جانب سے برداشت کئے جانے والے کسی بھی خرچے/ اخراجات کو اس میں سے منہا کیا جاتا ہے۔

(\* فری لک پیئرڈ کے اندر ادا کردہ زر تعاون کی واپسی کے لیے پلان اور ونڈ تکافل آپریٹرز کی رکنیت کی شرائط و ضوابط کی زیر نگرانی)

## ٹی پی ایل لائف ڈبلیوٹی ادا اعتبار اسلامک پلان کے تحت ملنے والے فوائد

### وفات پر ملنے والا فائدہ:

وفات پر ملنے والا فائدہ یونٹس یا تکافل شدہ رقم، جو بھی زیادہ ہو کی نقد مالیت + شریک تکافل کے انوسٹمنٹ فنڈ اکاؤنٹ (PIF) میں ٹاپ اپ کی مالیت کے مساوی نقد رقم + شرکاء تکافل کے فنڈ (PTF) کے اصولوں کے تحت اضافی رقم (سرپلس۔ اگر کوئی ہو) کے مطابق قابل ادائیگی ہے۔

### مہجوری پر ملنے والا فائدہ:

رکنیت کی مدت کی تکمیل پر، شریک تکافل کو دستیاب شرکاء تکافل کے انوسٹمنٹ فنڈ (PIF) کی مالیت مع ٹاپ اپ رقم (اگر کوئی ہو) کے اکاؤنٹ کی مالیت قابل ادائیگی ہوگی۔

اندراج کی عمر	18-65 سال
اختتامی عمر	85 سال
مدت کی حد و وسعت	کم از کم 5 سال۔ زیادہ سے زیادہ 25 سال

### اضافی فوائد:

تکافل کو ترجیح میں اضافے کے لیے درج ذیل بہترین ضمنی فوائد منسلک کئے گئے ہیں:

#### حادثاتی موت پر ملنے والا فائدہ:

اس کو ترجیح میں صرف حادثے کے باعث زندگی ضائع ہونے پر ملنے والا ڈیٹھ بینیفٹ شامل ہے۔

#### حادثاتی موت اور جسمانی معذوری پر ملنے والا فائدہ:

اس کو ترجیح میں موت اور مستقل کلی اور مستقل جزوی طور پر جسمانی معذوری پر ملنے والا فائدہ شامل ہے۔

#### پیچیدہ بیماری پر ملنے والا فائدہ:

پیچیدہ بیماری کی تشخیص کی صورت میں شریک تکافل کو کو ترجیح فراہم کی جائے گی۔

### کنٹری ہیوش سپورٹ بینیفٹ:

اس کوریج میں شریک تکافل کی کسی معاوضہ کے عوض ملازمت سے منسلک ہونے یا دیگر کسی ایسے پیشے سے جو اس کی اہلیت، تربیت اور تجربہ کے لحاظ سے موزوں ہو، میں کسی جسمانی زخم یا بیماری کے باعث اہل نہ ہونا، شامل ہے۔

### تعلیمی اخراجات کے حوالے سے ملنے والا فائدہ:

شریک تکافل کے وفات کی صورت میں، ای ای بی کنٹریکٹ کی منسوخی کی تاریخ تک ماہانہ فائدہ کی ادائیگی نامزد وارث کو کی جائے گی۔

### فیملی سپورٹ بینیفٹ:

شریک تکافل کے وفات کی صورت میں، ایف ایس بی کنٹریکٹ کی منسوخی کی تاریخ تک ماہانہ فائدہ کی ادائیگی نامزد وارث کو کی جائے گی۔

### ہاسپٹل کیش بینیفٹ:

اس کوریج کا اطلاق اس وقت ہوگا جب شریک تکافل کسی زخم یا بیماری کی شروعات کے نتیجے میں مسلسل کسی فزیشن کی زیر نگرانی کم از کم دو دنوں تک اسپتال میں داخل ہو۔

### غیر محرک ہونے پر معاونت:

بیماری کے باعث شریک تکافل کے مستقل اور کلی طور پر معذور ہونے کی صورت میں اس کوریج کا اطلاق ہوگا۔

### اکم سپورٹ بینیفٹ:

کسی بھی وجہ سے شریک تکافل کی وفات کی صورت میں کنٹریکٹ کی منسوخی تک اس کوریج کے تحت ملنے والے فوائد فراہم کئے جائیں گے۔

### اکثر پوچھے جانے والے سوالات:

اہلیت اور رکنیت کی مدت

• اندراج کی کم از کم عمر: 18 سال

• اندراج کی زیادہ سے زیادہ عمر: 65 سال

• اختتامی عمر: 85 سال

• رکنیت کی کم از کم مدت: 5 سال

• رکنیت کی زیادہ سے زیادہ مدت: 25 سال

• کم از کم زرتعاون: 25,000 روپے

• زیادہ سے زیادہ زرتعاون: 249,999 روپے

• زرتعاون کی ادائیگی کا طریقہ سالانہ، ششماہی، سہ ماہی اور ماہانہ

ضمنی فوائد، ضمنی فوائد کے مندرجات میں درج کردہ عمر پر منسوخ کر دیئے جائیں گے۔

## زرتعاون کی تفویض:

ذیل میں درج کردہ جدول شریک تکافل کے زرتعاون کی سالانہ شرح فیصد کو ظاہر کرتی ہے:

سال	زرتعاون کی تفویض کی شرح (بشمول بونس)	بونس کی تفویض کی شرح
1	55.00%	0.00%
2	80.00%	0.00%
3 تا 4	100.00%	0.00%
5	105.00%	5.00%
6 تا 9	100.00%	0.00%
10	105.00%	5.00%
11 تا 14	100.00%	0.00%
15	105.00%	5.00%
16 تا 19	100.00%	0.00%
20	105.00%	5.00%
21 اور اس سے آگے	100.00%	0.00%
ایڈ ہاک	97.00%	0.00%

یہ مسودہ کوئی کنٹریکٹ نہیں، محض ایک تعارفی اشتہار ہے۔ مفصل شرائط و ضوابط کے لیے ازراہ مہربانی شریک تکافل کی رکنیت دستاویز (پی ایم ڈی) ملاحظہ کیجئے۔

### انتباہ:

یہ پراڈکٹ ٹی پی ایل لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز کی جانب سے ہے۔

یہ دینی اسلامک بینک کی پراڈکٹ نہیں ہے اور ٹی پی ایل لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز اس تکافل کے تحت درپیش تمام نقصان کے خطرات (رسک) کا ذمہ دار ہے۔

درخواست گزار شریک تکافل اس بات سے مکمل اتفاق کرتا اور فہم رکھتا ہے کہ دینی اسلامک بینک، ٹی پی ایل لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے نمائندہ (ایجنٹ) کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ کہ دینی اسلامک بینک کو کسی بھی قسم کے حالات میں ٹی پی ایل لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے اعتبار اسلامک پلان، جو کہ ایک باقاعدہ زرتعاون کی حامل پراڈکٹ ہے اور یا اس سے ہونے والے نفع یا نقصان کے حوالے سے کسی بھی نمائندگی اور ریا حلف ناموں کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جائے گا۔

کیا درخواست گزار شریک تکافل کو اس ٹی پی ایل لائف ڈبلیو ٹی او اعتبار اسلامک پلان، جو کہ ایک باقاعدہ زرتعاون کی حامل پراڈکٹ ہے، کو سبسکرائب کرنے کے لیے پیش رفت کرنا چاہیے۔ شریک تکافل اپنے صوابدیدی رسک پر رضا کارانہ بنیاد پر یہ عمل کرے گا اور دینی اسلامک بینک، درخواست گزار شریک تکافل کی جانب سے دیئے جانے والے زرتعاون پر مشتمل فنڈ کی انوسٹمنٹ پر فارمنس کے تسلسل میں یا دیگر کسی بھی وجہ سے پیدا ہونے والے کسی بھی تنازعہ اور یا کلیم کے حوالے سے ذمہ دار نہیں ہوگا۔

ہنگامہ کنیت کے حوالے سے تمام ہنگامہ کلیمز، چارجز اور ادائیگیاں، انفرادی حیثیت میں اور خصوصی طور پر صرف ٹی پی ایل لائف۔ ونڈ ونڈ ہنگامہ کلیمز کی ذمہ داری ہوں گی۔ تاہم سروس چارجز اور محصولات (ٹیکسز)، بینکوں کے "شیڈول آف چارجز" اور متعلقہ حکام کی جانب سے متعین کردہ ٹیکس قوانین کے مطابق لاگو ہوں گے۔

## کلیم کا طریقہ کار:

ٹی پی ایل لائف ونڈ ونڈ ہنگامہ کلیمز کی کارروائی کے شفاف، آسان اور سہل عمل کی یقین دہانی کرتا ہے۔ اپنے عہد کی پاسداری کے لیے ہم کلیم کنندہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام مطلوبہ دستاویزات و تقاضوں کی فوری تکمیل کو یقینی بنائیں۔ کلیم کے تصفیہ کے حوالے سے ہمارا طریقہ کار کسی بھی پریشانی سے مبرا اور فوری ہے جو کہ درج ذیل تین آسان اور سادہ مراحل پر مشتمل ہے:

### مرحلہ 1: اطلاع دینا

اس رکنیت کے تحت فوائد کے حوالے سے کلیم، رکنیت کے حامل فرد کے نامزد شخص کی جانب سے تحریری اطلاع دائر کر کے کیا جاسکتا ہے۔ اطلاع جمع کراتے وقت ہمیشہ وقوعہ کی تاریخ، وقوعہ کی وجہ اور موجودہ پتہ درج کرنا یاد رکھیں۔ کلیم کی تحریری اطلاع ذیل میں درج ڈاک راری میل پتہ پر یا اس بینک کو ارسال کی جاسکتی ہے جہاں سے رکنیت حاصل کی گئی تھی۔

پتہ:

ٹی پی ایل لائف ونڈ ونڈ ہنگامہ کلیمز آپریشنز

B-19، لین 3، ایس ایم سی ایچ ایس، رومی مسجد کی گلی میں، شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان

فون: 10 - 35171701 (021)

یو ایس این: 9060 "TPLLIFE (space) Complaint" 111-000-330 21 +92

واٹس ایپ: 923018247803 +

ای میل: info@tpllife.com

ویب سائٹ: www.tpllife.com

## مرحلہ 2: کلیم فارم پُر کریں

وقوعہ کی اطلاع ملنے پر، ٹی پی ایل لائف (ڈبلیو ٹی او) کلیم کا اندراج کر کے اسے تسلیم کرے گا اور واقعات کی نوعیت اور ریا کلیم کی نوعیت کی بنیاد پر نقصان کے مطلوبہ ثبوت جمع کرانے کے 15 ایام میں متعلقہ فارمز کا اجراء کرے گا۔ مطلوبہ معلومات کی حد، واقعہ کی نوعیت اور ریا کلیم کی نوعیت کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ کلیم کے حوالے سے باضابطہ طور پر مکمل شدہ، دستخط شدہ اور دو گواہوں سے گواہ شدہ متعلقہ دستاویزات اور فارمز، ٹی پی ایل (ڈبلیو ٹی او) کو لازماً واپس کئے جائیں۔

## مرحلہ 3: تصفیہ اور ادائیگی:

ٹی پی ایل لائف (ڈبلیو ٹی او) کلیم کے منظور ہونے پر اس کلیم کا چیک اصل نامزد وارث کو مطلوبہ دستاویزات مع مکمل فارم کی ادارے کو وصولی پر فوری طور پر جاری کر دیا جائے گا۔

موت / معذوری کے کلیم کی کارروائی کے لیے مطلوبہ دستاویزات:

### موت (طبعی / حادثاتی):

کلیم کنندہ کا بیان (کلیم کنندہ اور مرحوم کی معلومات)  
طبی معالج (اٹینڈنٹ) کا بیان (طبی معالج (اٹینڈنٹ) کی جانب سے باضابطہ طور پر مکمل شدہ)  
\* اضافی مطلوبہ تقاضوں کے حوالے سے کلیم فارم ملاحظہ فرمائیں۔

### معذوری (طبعی / حادثاتی):

کلیم کنندہ کا بیان (شریک تکفل اور وقوعہ کی معلومات)  
طبی معالج (اٹینڈنٹ) کا بیان (طبی معالج (اٹینڈنٹ) کی جانب سے باضابطہ طور پر مکمل شدہ)  
\* اضافی مطلوبہ تقاضوں کے حوالے سے کلیم فارم ملاحظہ فرمائیں۔